



## رسول اللہ ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا داہنا ہاتھ اپنے گال مبارک کے نیچے رکھتے اور پھر کہتے: "اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ" اے اللہ! مجھے اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا

حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا داہنا ہاتھ اپنے گال مبارک کے نیچے رکھتے اور پھر کہتے: "اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ" اے اللہ! مجھے اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ ایسا تین دفعہ کہا کرتے تھے

[صحیح] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے - اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے - اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں نبی ﷺ کی سنتوں میں سے ایک فعلی اور قولی سنت کا بیان ہے اور دونوں سنتیں نیند سے متعلق سنتوں میں سے ہیں فعلی سنت: اس سے مراد وہ بیٹت ہے جس پر نبی ﷺ سو یا کرتے تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں نبی ﷺ کے سونے کے انداز کے بارے میں بتایا کہ آپ ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے اس میں آپ ﷺ کے دائیں ہاتھ پر سونے کی دلیل ہے کیونکہ آپ ﷺ جب اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار تلے رکھتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ لامحالہ اپنے دائیں ہاتھ پر سوتے تھے اور دیگر روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں (کہ آپ ﷺ دائیں ہاتھ پر سو یا کرتے تھے) تاہم اس حدیث میں ایک بات زائد ہے کہ آپ ﷺ رخسار تلے اپنا ہاتھ رکھا کرتے تھے چنانچہ جو شخص ایسا کرسکتا ہو وہ آپ ﷺ کی پیروی میں ایسا کرے اور جو شخص دائیں ہاتھ پر سو یا کر لے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہو گا کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ ﷺ اپنے دائیں ہاتھ پر سو یا کرتے تھے اور ان میں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے شاید نبی ﷺ ایسا بعض اوقات کیا کرتے تھے اس کی طرف اشارہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ نے اسے ذکر کیا ہے اور بعض نے اسے ذکر نہیں کیا تاہم تمام روایات کا دائیں ہاتھ پر سو یا کرنے پر اتفاق ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی عین سنت ہے "پھر آپ ﷺ فرماتے" یہاں تم کا لفظ ترتیب اور تراخی پر دلالت کرتا ہے اور یہ اس شخص کی حالت سے مناسبت رکھتا ہے جس کا سونے کا ارادہ ہو اور ایسا شخص پہلے اپنے داہنے ہاتھ پر سو یا کر لیتے گا اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھے گا پھر اس کے بعد دعا پڑھے گا یہ شرط نہیں ہے کہ انسان لیٹنے کے فوراً بعد یہ دعا کرے کیونکہ "تم" کا لفظ تاخیر پر دلالت کرتا ہے چنانچہ اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرتا رہے اور پھر اس کے بعد دعا پڑھے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے "اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ" یعنی قیامت کے دن مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا لفظ "قنی" میں اللہ کے فضل و احسان کی بدولت حفاظت کا معنی ہے یا یہ لفظ بندے کو ایسے فعل کی توفیق دینے پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور عذاب سے نجات مل جاتی ہے کیونکہ اصل عموم ہے ہوتا ہے اور تخصیص کی طرف صرف اسی وقت جایا جاتا ہے جب کوئی دلیل ہو اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ دونوں ہی معانی کا احاطہ کرتا ہے "عذابک" یہ عذاب کی تمام اقسام کو شامل ہے اس میں جہنم کا عذاب بدرجہ اول داخل ہے تاہم اس دن کو اللہ نے الفارعة، الصاخة، الطامة اور القیامہ جیسے ناموں سے موسوم کیا ہے اور یہ بات اس کی ہولناکی اور سختی پر دلالت کرتی ہے چنانچہ مناسب ہے کہ اللہ سے اس دن کے عذاب سے نجات کی دعا کی جائے "عذابک" اس میں نبی ﷺ نے عذاب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی تاکہ اس سے اس کی ہولناکی، شدت اور عظمت کی نشاندہی ہو سکے اسی طرح اس میں سپردگی کا معنی بھی ہے کیونکہ بندوں میں صرف

اللہ کی کا اختیارِ تصرف چلتا ہے اور اس عذاب پر اس غالب و مالک کا تصرف ہے لفظ دونوں کی معانی (عذاب کی سختی اور سپردگی) کو شامل ہے اس لطیف مناسبت پر غور کریں جو نیند جو کہ موت کی بہن یا چھوٹی موت ہے اور موت کہ بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مابین ہے حدیث میں شہ (موت) اور اس کے تابع (بعث بعد الموت) کے مابین ہے تھی لطیف اور باریک قسم کی مناسبت کا بیان ہے اور یہ بات نبی کے الفاظ کی عظمت و جمال کی دلیل ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6167>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

